

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

Diploma in Engineering Information Technology

III/VI Semester Exams (AICTE)-April/May -2024

Subject: Advance Computer Networks Subject Code – DPCS613PET

Total Time: 3 hrs

Total

Marks 60

وقت: 60 منٹ

25 :

- یہ پچ سوالات میں جواب پر منصب ہے۔ حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر سوال سے سوں یا تھوڑا سارہ ہے۔ تمام سوں سے جواب پر منصاری ہے۔
1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/ خالی جگہ پر کرنا/ مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ $(10 \times 1 = 10 \text{ Marks})$
2. حصہ دوم میں 7 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی (4) سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً 400 (لکھوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے (5) نمبرات مختص ہیں۔ $(4 \times 5 = 20 \text{ Marks})$
3. حصہ سوم میں 5 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی (3) سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لکھوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ $(3 \times 10 = 30 \text{ Marks})$

حصہ - اول

سوال : 1

نیٹ ورکس میں ملٹی کاسٹنگ کے لیے عام طور پر کون سا پروٹوکول استعمال ہوتا ہے؟ i. IPv4.

- a) ICMP b) TCP c) IGMP d) ARP

ii. نیٹ ورکس میں ذیلی نیٹ ورک کا مقصد کیا ہے؟

- a) To increase the number of available IP addresses
b) To reduce network traffic
c) To segment a large network into smaller, more manageable sub networks
d) To improve network security

iii. کون سا فن تعمیر عام طور پر وائر لیس نیٹ ورکس سے وابستہ ہے؟

- a) Bus b) Star c) Ring d) Mesh

نیٹ ورکس میں سیلوولر فونز کے لیے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے؟ iv. GSM.

- a) 3G b) LTE c) CDMA d) EDGE

v. نیٹ ورک سیکیورٹی میں فائر وال کا بنیادی کام کیا ہے؟

- a) To prevent unauthorized access to or from a private network
b) To encrypt network traffic
c) To optimize network performance
d) To manage IP addressing

کون سا پروٹوکول عام طور پر نیٹ ورک ڈیوائیس کے انتظام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ vi.

- a) SMTP b) SNMP c) FTP d) HTTP

vii. نیٹ ورک فن تعمیر میں VLAN کا مقصد کیا ہے؟

- a) To connect devices within the same physical location
- b) To segment a network into virtual LANs for improved security and traffic management
- c) To establish a direct connection between two network devices
- d) To encrypt data transmission over the network

viii. پر اکسی سرور استعمال کرنے کا بنیادی فائدہ کیا ہے؟

- a) Improved network performance
- b) Enhanced network security
- c) Simplified network management
- d) Increased bandwidth availability

نیٹ ورکس میں IP ایڈریس تفویض کے لیے کون سی تکنیک استعمال کی جاتی ہے؟
IPv6-ix.

- a) DHCP
- b) ARP
- c) CIDR
- d) Stateless auto-configuration

x. نیٹ ورک فن تعمیر میں لوڈ بیلنس کا مقصد کیا ہے؟

- a) To distribute network traffic evenly across multiple servers
- b) To filter incoming network traffic
- c) To establish secure connections between networks
- d) To monitor network performance and troubleshoot issues

ذیلی نیٹ IPv4 نیٹ ورکنگ میں حصہ کی اہمیت کی وضاحت کریں۔

2. نیٹ ورک کے تصور اور سیلوولر نیٹ GSM، CDMA، ٹیکنالوژیز کے درمیان فرق پر تبادلہ خیال کریں۔

3. نیٹ ورک فالتوں پر اور زیادہ دستیابی کو یقینی بنانے میں لوڈ بیلنسرز کے کردار کی وضاحت کریں۔

4. نیٹ ورک آرکیٹیکچر میں VLANs کے افعال اور فوائد کی وضاحت کریں۔
نیٹ ورک کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیشنگ تکنیک کے نفاذ پر تبادلہ خیال کریں۔

5. نیٹ ورک میں بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہونے والی TCP بہاؤ کے انتظام کی تکنیکوں کی وضاحت کریں۔
پروٹوکول سپوفنگ کے اصولوں اور نیٹ ورک سیکورٹی پر اس کے مضمرات کی وضاحت کریں۔

حصہ - سوم

6. PIM اور IGMP - جیسے ملٹی کاست روٹنگ پروٹوکول کے کردار کا تجزیہ کریں۔

7. نیٹ ورکس میں ملٹی کاست ٹریفک کے انتظام میں بڑے پیمانے پر نیٹ ورکس میں آئی پی ایڈریسنگ اسکیما ڈیزائن سے متعلق چیانجز اور حل پر تبادلہ خیال کریں۔

- 11- IPv6 پروٹوکول اور IPv4 کے بیڈرز بنائیں اور ان کا موازنہ کریں۔ فائر والز اور مداخلت سے بچاؤ کے (IPS) نظام کے نفاذ کی وضاحت کریں۔
12. VPNs سب نیٹ ورک کے حفاظتی اقدامات جیسے کہ سب نیٹ ماسک کے ساتھ کلاس C نیٹ ورک پر غور کریں۔
13. 255.255.255.192 = درج ذیل فیلٹر تلاش کریں۔

- (a). Number of bits borrowed from host ID.
- (b). Number of possible subnets.
- (c). Number of systems per subnet and their range of IP addresses.